



THE PREMIER SUGAR MILLS & DISTILLERY CO. LTD.

King's Arcade, 20-A, Markaz F-7, P.O. Box 1529, Islamabad

Ref: PSM/SECP/5/2025

February 04, 2025

The Director Enforcement

Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue – Blue Area
Islamabad.

**SUBJECT: ADVERTISEMENT FOR THE NOTICE OF AGM
PUBLISHED IN NEWSPAPERS**

Dear Sir,

We hereby submit that we have published the Notice for the Company's Annual General Meeting to be held on February 26, 2025 in the following Newspapers:

1. "The Daily Observer" Islamabad and Karachi - English
Dated **February 04, 2024**
2. "The Daily Assas" Rawalpindi and Karachi - Urdu
Dated **February 04, 2024**

We also enclose herewith Notice of the Meeting in accordance with the instructions contained in your Circular No. 2 of 2001 dated 22 February, 2001.

Original Notice along with photocopies of the Newspapers cuttings are enclosed herewith for your kind information and record please.

Thanking you

Yours truly

(Mujahid Bashir)
Company Secretary

Encl: as above



THE PREMIER SUGAR MILLS & DISTILLERY CO. LTD.

King's Arcade, 20-A, Markaz F-7, P.O. Box 1529, Islamabad

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT 79th Annual General Meeting of the shareholders of The Premier Sugar Mills & Distillery Company Limited will be held on February 26, 2025 at 11:30 AM at the Registered Office of the Company at Nowshera Road, Mardan, for transacting the following business :-

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on February 26, 2024.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' reports for the year ended September 30, 2024.
3. To appoint the Auditors of the Company and to fix their remuneration for the financial year ending September 30, 2025. The present auditors' M/s. ShineWing Hameed Chaudhri & Co., Chartered Accountants retire and being eligible offer themselves for re-appointment.
4. To transact any other business of the Company as may be permitted by the Chair.

SPECIAL BUSINESS:

5. To consider and if thought fit to pass the following resolutions, with or without amendment(s) as the Special Resolution:

TO APPROVE RELATED PARTIES TRANSACTIONS

- a) To ratify and approve the transactions carried out by the Company with related parties for the year ended September 30, 2024, and to pass the following Special Resolution(s) with or without modification(s):

"RESOLVED THAT the transactions conducted in ordinary course of business with Related Parties during the year ended September 30, 2024 be and are hereby ratified, approved and confirmed"

- b. To approve transactions with related parties and to authorize the Board of Directors of the Company to carry out such related party transactions from time to time which require approval of shareholders u/s 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017 and to pass the following Special Resolution(s) with or without modification(s):



THE PREMIER SUGAR MILLS & DISTILLERY CO. LTD.

King's Arcade, 20-A, Markaz F-7, P.O. Box 1529, Islamabad

"RESOLVED THAT the Company may carry out transactions including but not limited to sale and purchase of stores and spares, shared expenses, toll manufacturing, sale and purchase of products/mid-products/raw material/assets and purchase of packaging material, payment against sales collections, lease rentals and license fee, fee for services, with related parties from time to time with related parties during the year ending September 30, 2025.

FURTHER RESOLVED THAT details of transactions incurred up to date of the next meeting of shareholders shall be presented in the next meeting of shareholders for ratification.

FURTHER RESOLVED THAT within the parameters approved above by the shareholders of the Company, the Board of Directors of the Company may approve specifically related party transactions from time to time in compliance with the Company's policy pertaining to related party transactions and notwithstanding any interest of the directors of the Company in any related party transaction(s) which has been noted by the shareholders and the transactions approved by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders u/s 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017."

The share transfer books of the Company will remain closed from February 16, 2025 to February 26, 2025 (both days inclusive).

By Order of the Board

(MUJAHID BASHIR)
Company Secretary

Mardan
February 03, 2025

Notes:

1. A member, eligible to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of himself/herself. Proxies in order to be effective must be valid and received by the Company not less than 48 hours before the time for holding of the Meeting and must be duly stamped, signed and witnessed. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
2. Members are requested to notify the Shares Registrar of the Company of any change in their addresses immediately.



THE PREMIER SUGAR MILLS & DISTILLERY CO. LTD.

King's Arcade, 20-A, Markaz F-7, P.O. Box 1529, Islamabad

3. CDC shareholders are requested to bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) or Original Passport, account, sub account number and participant's number in the Central Depository System for identification purpose for attending the Meeting. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.
4. Members who desire to receive annual financial statement and notice of meeting for the financial year ended on September 30, 2024 or onward through email, instead of registered post/ courier, may submit their consent on the form available for the purpose on Company's website.
5. The Financial Statements of the Company for the year ended September 30, 2024 along with reports have been placed at website of the Company www.premiersugarmills.com
6. **Video-Link Facility**
The SECP vide circular no 4 of 2021 has advised to provide participation of the members through electronic means. Members interested to participate in the AGM are requested to email their Name, Folio Numbers, Number of Shares held in their name: Cell Number, CNIC Number (along with valid copy of both sides of CNIC) with subject "**Registration for Participation in AGM**" at mujahid@premiergroup.pk.

Video link and login credentials shall be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received by the close of business hours (till 5:00 pm) on Monday February 24, 2025.
7. **Conversion of Physical Shares into Book Entry Form**
The SECP through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed companies to adhere to the provision of Section-72 of the Companies Act, 2017 (the "Act") requiring all the existing companies to replace shares issued by them in physical form with shares into Book-Entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP but not exceeding four (04) years from the date of promulgation of the Act.
8. **Unclaimed dividend / shares**
Shareholders who have not collected their dividend / physical shares are advised to contact our shares registrar to collect / enquire about their unclaimed dividend or shares, if any.





THE PREMIER SUGAR MILLS & DISTILLERY CO. LTD.

King's Arcade, 20-A, Markaz F-7, P.O. Box 1529, Islamabad

9. Postal Balloting / E-Voting

For voting through post for the special business at the ANNUAL General Meeting of "The Premier Sugar Mills & Distillery Company Limited" to be held on Wednesday, February 26, 2025 at 11:30 AM (PST) at Nowshera Road, Mardan. Designated email address of the Company Secretary at which the duly filled in ballot paper may be sent: mujahid@premiergrouppk.com Annexure of postal balloting available in website and attached with notice as well.

Procedure for E-Voting

- a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on February 24, 2025.
- b) The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS by the Share Registrar (being the e-voting service provider).
- c) Identity of the Members intending to cast vote through e Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- d) Members shall cast vote online at any time from February 24, 2025, 9:00 a.m. to February 25, 2025. Voting shall close on February 25, 2025, at 5:00 p.m. Once the vote on the resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

Procedure for voting through postal ballot paper

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's address at The Company Secretary, Chashma Sugar Mills Limited, Kings Arcade, 20-A Markaz F-7, Islamabad. or email mujahid@premiergrouppk.com one day before the day of poll, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

Statement of Material Facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017

This statement sets out the material facts pertaining to special business.



THE PREMIER SUGAR MILLS & DISTILLERY CO. LTD.

King's Arcade, 20-A, Markaz F-7, P.O. Box 1529, Islamabad

Material Facts:

This statement sets out the material facts pertaining to the special business, being Items on the notice, intended to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on February 26, 2025.

- a. Transactions carried out by the Company with its related parties constitute a small fraction of the Company's entire business. The Company carries out transactions with its Associated Companies and related parties in the normal course of business. It is also emphasized that the Company carries out such transactions in a fair and transparent manner and on an arm's length basis. All transactions entered into with Associated Companies and related parties require the approval of the Audit Committee of the Company, which is chaired by the Independent Director of the Company. The Audit Committee reviews the transactions and ensures that the pricing method is transparent and at par with running market practice and that the terms are as per the Company's practices. Only upon the recommendation of the Audit Committee, such transactions are placed before the board of directors for approval.

The transactions with related parties carried out during the fiscal year 2023-2024 to be ratified have been disclosed in the financial statements for the year ended September 30, 2024. All such transactions were recommended by the Audit Committee and were carried out at arm length basis.

Due to the composition of the Board of Directors of the Company, many Directors may be deemed to be treated as interested in transactions with certain related parties due to their common directorships and/or shareholding. Therefore, the shareholders are being approached to grant a broad and prior approval for such transactions to be entered into by the Company, from time to time, at the discretion of the Board and irrespective of its composition and interest of directors due to their common directorship and holding of shares in the associated companies/related parties, triggering approval of shareholders under section 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017, for the year ending September 30, 2025, which transactions shall be deemed to be approved by the shareholders. The Company shall ensure that such transactions with related parties, if needed, continue to be carried out in a fair and transparent manner and at Arm's Length Basis.

Transactions intended to be carried out by the Company include, but are not limited to, the sale/purchase of molasses and other necessary goods, as well as the purchase of PP bags and other necessary goods and commodities including receipts/ payments of dividends with the following related parties including, but are not limited to:

- | | |
|--|--|
| a) Chashma Sugar Mills Limited | b) Premier Board Mills Limited |
| c) Syntron Limited | d) Syntronics Limited |
| e) Whole Foods (Private) Limited | f) Arpak International Investments Limited |
| g) The Frontier Sugar Mills & Distillery Limited | h) Azlak Enterprises (Pvt.) Limited |
| i) Phipson & Co Pakistan (Pvt.) Limited | j) Ultimate Whole foods (Pvt.) Limited |



The Premier Sugar Mills & Distillery Company Limited

Notice of Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT 79th Annual General Meeting of the shareholders of The Premier Sugar Mills & Distillery Company Limited will be held on February 26, 2025 at 11:30 AM at the Registered Office of the Company at Nowshera Road, Mardan, for transacting the following business :-

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on February 26, 2024.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' reports for the year ended September 30, 2024.
3. To appoint the Auditors of the Company and to fix their remuneration for the financial year ending September 30, 2025. The present auditors M/s. ShineWing Hameed Chaudhri & Co., Chartered Accountants retire and being eligible offer themselves for re-appointment.
4. To transact any other business of the Company as may be permitted by the Chair.

SPECIAL BUSINESS:

5. To consider and if thought fit to pass the following resolutions, with or without amendment(s) as the Special Resolution:

TO APPROVE RELATED PARTIES TRANSACTIONS

- a) To ratify and approve the transactions carried out by the Company with related parties for the year ended September 30, 2024, and to pass the following Special Resolution(s) with or without modification(s):
☐ **RESOLVED THAT** the transactions conducted in ordinary course of business with Related Parties during the year ended September 30, 2024 be and are hereby ratified, approved and confirmed"
- b) To approve transactions with related parties and to authorize the Board of Directors of the Company to carry out such related party transactions from time to time which require approval of shareholders u/s 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017 and to pass the following Special Resolution(s) with or without modification(s):
☐ **RESOLVED THAT** The Company may carry out transactions including but not limited to sale and purchase of stores and spares, shared expenses, toll manufacturing, sale and purchase of products/mid-products/raw material/assets and purchase of packaging material, payment against sales collections, lease rentals and license fee, fee for services, with related parties from time to time with related parties during the year ending September 30, 2025.
FURTHER RESOLVED THAT details of transactions incurred up to date of the next meeting of shareholders shall be presented in the next meeting of shareholders for ratification.
FURTHER RESOLVED THAT within the parameters approved above by the shareholders of the Company, the Board of Directors of the Company may approve specifically related party transactions from time to time in compliance with the Company's policy pertaining to related party transactions and notwithstanding any interest of the directors of the Company in any related party transaction(s) which has been noted by the shareholders and the transactions approved by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders u/s 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017."

The share transfer books of the Company will remain closed from February 16, 2025 to February 26, 2025 (both days inclusive).

By Order of the Board

(MUJAHID BASHIR)
Company Secretary

Mardan

February 03, 2025

Notes:

1. A member, eligible to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of himself/herself. Proxies in order to be effective must be valid and received by the Company not less than 48 hours before the time for holding of the Meeting and must be duly stamped, signed and witnessed. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
2. Members are requested to notify the Shares Registrar of the Company of any change in their addresses immediately.
3. CDC shareholders are requested to bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) or Original Passport, account, sub account number and participant's number in the Central Depository System for identification purpose for attending the Meeting. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.
4. Members who desire to receive annual financial statement and notice of meeting for the financial year ended on September 30, 2024 or onward through email, instead of registered post/ courier, may submit their consent on the form available for the purpose on Company's website.
5. The Financial Statements of the Company for the year ended September 30, 2024 along with reports have been placed at website of the Company www.premiersugarmills.com
6. **Video-Link Facility**
The SECP vide circular no 4 of 2021 has advised to provide participation of the members through electronic means. Members interested to participate in the AGM are requested to email their Name, Folio Numbers, Number of Shares held in their name, Cell Number, CNIC Number (along with valid copy of both sides of CNIC) with subject **Registration for Participation in AGM** at mujahid@premiergroup.pk.
Video link and login credentials shall be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received by the close of business hours (till 5:00 pm) on Monday February 24, 2025.
7. **Conversion of Physical Shares into Book Entry Form**
The SECP through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed companies to adhere to the provision of Section-72 of the Companies Act, 2017 (the "Act") requiring all the existing companies to replace shares issued by them in physical form with shares into Book-Entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP but not exceeding four (04) years from the date of promulgation of the Act.
8. **Unclaimed dividend / shares**
Shareholders who have not collected their dividend / physical shares are advised to contact our shares registrar to collect / enquire about their unclaimed dividend or shares, if any.
9. **Postal Balloting / E-Voting**
For voting through post for the special business at the ANNUAL General Meeting of ☐ The Premier Sugar Mills & Distillery Company Limited to be held on Wednesday, February 26, 2025 at 11:30 AM (PST) at Nowshera Road, Mardan. Designated email address of the Company Secretary at which the duly filled in ballot paper may be sent: mujahid@premiergroup.pk Annexure of postal balloting available in website and attached with notice as well.

Procedure for E-Voting

- a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on February 24, 2025.
- b) The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS by the Share Registrar (being the e-voting service provider).
- c) Identity of the Members intending to cast vote through e Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- d) Members shall cast vote online at any time from February 24, 2025, 9:00 a.m. to February 25, 2025. Voting shall close on February 25, 2025, at 5:00 p.m. Once the vote on the resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

Procedure for voting through postal ballot paper

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's address at The Company Secretary, Chashma Sugar Mills Limited, Kings Arcade, 20-A Markaz F-7, Islamabad or email mujahid@premiergroup.pk one day before the day of poll, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

The Statement of Material Facts under Section 134(3) pertaining to the ☐ Special Business ☐ of the Companies Act, 2017 is annexed with the Notice being sent to the members.



OBSERVER
 Exes & Ldrs of Pakistan
 Founded by: Zahid Malik (Shura-i-Jamiat & Miliat-i-Jamiat)
 Pakistans seeks close ties
 with US to promote peace
 Syed Yousaf Raza Gilani,
 Chairman Senate
 Enough is enough:
 Former Captain denies
 criticising Mohsin Naqvi
 Waseem Akram,
 Former Captain
 Vol. XXXV, Issue Jan Regd. No. 11
 ISLAMABAD
 Pakistan Observer
 Rs. 40
 JANUARY 03, 2025



The Premier Sugar Mills & Distillery Company Limited

Notice of Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT 79th Annual General Meeting of the shareholders of The Premier Sugar Mills & Distillery Company Limited will be held on February 26, 2025 at 11:30 AM at the Registered Office of the Company at Nowshera Road, Mardan, for transacting the following business :-

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on February 26, 2024.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' reports for the year ended September 30, 2024.
3. To appoint the Auditors of the Company and to fix their remuneration for the financial year ending September 30, 2025. The present auditors M/s. ShineWing Hameed Chaudhri & Co., Chartered Accountants retire and being eligible offer themselves for re-appointment.
4. To transact any other business of the Company as may be permitted by the Chair.

SPECIAL BUSINESS:

5. To consider and if thought fit to pass the following resolutions, with or without amendment(s) as the Special Resolution:

TO APPROVE RELATED PARTIES TRANSACTIONS

- a) To ratify and approve the transactions carried out by the Company with related parties for the year ended September 30, 2024, and to pass the following Special Resolution(s) with or without modification(s):
RESOLVED THAT the transactions conducted in ordinary course of business with Related Parties during the year ended September 30, 2024 be and are hereby ratified, approved and confirmed"
- b) To approve transactions with related parties and to authorize the Board of Directors of the Company to carry out such related party transactions from time to time which require approval of shareholders u/s 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017 and to pass the following Special Resolution(s) with or without modification(s):
RESOLVED THAT the Company may carry out transactions including but not limited to sale and purchase of stores and spares, shared expenses, toll manufacturing, sale and purchase of products/mid-products/raw material/assets and purchase of packaging material, payment against sales collections, lease rentals and license fee, fee for services, with related parties from time to time with related parties during the year ending September 30, 2025.
FURTHER RESOLVED THAT details of transactions incurred up to date of the next meeting of shareholders shall be presented in the next meeting of shareholders for ratification.
FURTHER RESOLVED THAT within the parameters approved above by the shareholders of the Company, the Board of Directors of the Company may approve specifically related party transactions from time to time in compliance with the Company's policy pertaining to related party transactions and notwithstanding any interest of the directors of the Company in any related party transaction(s) which has been noted by the shareholders and the transactions approved by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders u/s 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017."

The share transfer books of the Company will remain closed from February 16, 2025 to February 26, 2025 (both days inclusive).

By Order of the Board

(MUJAHID BASHIR)
Company Secretary

Mardan
February 03, 2025

Notes:

1. A member, eligible to attend and vote at this meeting, may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of himself/herself. Proxies in order to be effective must be valid and received by the Company not less than 48 hours before the time for holding of the Meeting and must be duly stamped, signed and witnessed. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
2. Members are requested to notify the Shares Registrar of the Company of any change in their addresses immediately.
3. CDC shareholders are requested to bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) or Original Passport, account, sub account number and participant's number in the Central Depository System for identification purpose for attending the Meeting. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.
4. Members who desire to receive annual financial statement and notice of meeting for the financial year ended on September 30, 2024 or onward through email, instead of registered post/ courier, may submit their consent on the form available for the purpose on Company's website.

The Financial Statements of the Company for the year ended September 30, 2024 along with reports have been placed at website of the Company www.premiersugarmills.com

Video-Link Facility

The SECP vide circular no 4 of 2021 has advised to provide participation of the members through electronic means. Members interested to participate in the AGM are requested to email their Name, Folio Numbers, Number of Shares held in their name, Cell Number, CNIC Number (along with valid copy of both sides of CNIC) with subject **Registration for Participation in AGM** at mujahid@premiergroup.pk.

Video link and login credentials shall be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received by the close of business hours (till 5:00 pm) on Monday February 24, 2025.

Conversion of Physical Shares into Book Entry Form

The SECP through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed companies to adhere to the provision of Section-72 of the Companies Act, 2017 (the "Act") requiring all the existing companies to replace shares issued by them in physical form with shares into Book-Entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP but not exceeding four (04) years from the date of promulgation of the Act.

Unclaimed dividend / shares

Shareholders who have not collected their dividend / physical shares are advised to contact our shares registrar to collect / enquire about their unclaimed dividend or shares, if any.

Postal Balloting / E-Voting

For voting through post for the special business at the ANNUAL General Meeting of **The Premier Sugar Mills & Distillery Company Limited** to be held on Wednesday, February 26, 2025 at 11:30 AM (PST) at Nowshera Road, Mardan. Designated email address of the Company Secretary at which the duly filled in ballot paper may be sent: mujahid@premiergroup.pk Annexure of postal balloting available in website and attached with notice as well.

Procedure for E-Voting

- a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on February 24, 2025.
- b) The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS by the Share Registrar (being the e-voting service provider).
- c) Identity of the Members intending to cast vote through e Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- d) Members shall cast vote online at any time from February 24, 2025, 9:00 a.m. to February 25, 2025. Voting shall close on February 25, 2025, at 5:00 p.m. Once the vote on the resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

Procedure for voting through postal ballot paper

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's address at The Company Secretary, Chashma Sugar Mills Limited, Kings Arcade, 20-A Markaz F-7, Islamabad, or email mujahid@premiergroup.pk one day before the day of poll, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

Statement of Material Facts under Section 134(3) pertaining to the **Special Business** of the Companies Act, 2017 is annexed to the Notice being sent to the members.



Pakistan seeks close ties with US to promote peace

Syed Yousaf Raza Gilani,
Chairman Senate

Pakistan

Founded by: Zahid Malik (Shura-i-Azhar & Huda-i-Haq)

Watch read and trusted Daily

Enough is enough:
Former Captain denies
criticising Mohsin Naqvi

Waseem Akram,
Former Captain

Tuesday
February 04, 2025
Shabaan 05, 1446
Rs. 40/-
Published by: Iqbal
Vol. XXI, Issue 291 Regd. No. 111
KARACHI

Enough is enough:
Former Captain denies
criticising Mohsin Naqvi

Waseem Akram,
Former Captain

26 فروری 2025 کو صبح 11:30 بجے نوشہرہ روڈ مردان میں چینی کے رجسٹرڈ آفس میں منعقد ہوا۔

1. 26 فروری 2024 کو متفق ہونے والے سالانہ جنرل اجلاس کے منشی کی توثیق کرنا۔
2. 30 جنوری 2024 کو متفق ہونے والے سال کے لئے ڈائریکٹر اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کو حاصل کرنے، غور کرنے اور انہیں سنبھالنے کے لئے منظوری دینا۔
3. کمپنی کے آڈیٹر کی تقرری اور 30 جنوری 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے ان کا حاضریہ مقرر کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز کے میسرز شائین ونگ جی جی جی کی طرف سے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو چکے ہیں اور دوبارہ تقرری کے اہل ہیں۔
4. کمپنی کے دیگر امور پر کاروائی کی پیروی کی طرف سے اجازت دی جائے۔

5. مندرجہ ذیل قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کرنے کو خصوصی قرارداد کے طور پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو: **حلقہ پٹنوں کے لین دین کی منظوری دینا**

30 ستمبر، 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لئے مختلف فریقوں کے ساتھ کینیڈا کی طرف سے کیے گئے یلین دین کی توثیق اور منظوری دینا اور منظور شدہ ذیلی خصوصی قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کرنا۔

30 ستمبر، 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران مختلف فریقوں کے ساتھ کاروبار کے عام کورس میں کیے گئے یلین دین کی توثیق، منظوری اور

2. مختلف فریقوں کے ساتھ لین دین کی منظوری دینا اور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو دیا تو ان ایسے متعلقہ ہائی ٹرانزیکشنز کرنے کا اختیار دیتا جس کے لئے انٹرنیٹ پر 2017 کی دفعہ 207 اور / یا 208 کے تحت شیئر ہولڈرز کی منظوری دیا گیا ہو اور مندرجہ ذیل خصوصی قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کیا جائے:

[illegible]

[Handwritten signature]

مزدوان

ایک رکن، جو اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہے، اپنے بھائی کسی دوسرے رکن کو شرکت، ہونے اور ووٹ دینے کے لئے اپنے برائے طرز پر مقرر کر سکتا ہے۔ مؤخر ہونے کے لئے پاسز کو جائز ہونا چاہئے اور اجلاس کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے پہنچ کر اس طرف سے وصول کیا جانا چاہئے اور مناسب طور پر، دیکھا اور گواہی دی جانی چاہئے۔ ایک رکن ایک سے زیادہ برائے طرز پر مقرر کر سکتا ہے اور پہنچ کر اس طرف سے دوسرے کے بجائے اس کے بجائے اس کی جگہ پر دوسرے کے لئے اپنے ووٹ دینے کے لئے بھی تہذیب کے لئے پیش کردہ رجسٹرڈ کو دوسری طور پر دیکھا کریں۔ کسی ڈاک کی یا دیگر طور سے درخواست کی جانی ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے لئے اپنا اصل کیپورٹ فارڈ کوئی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ، اکاؤنٹ، فزیکل اکاؤنٹ نمبر اور شرکت کا نمبر سینٹرل فائبرز میں مسکن لائیں۔ کارپورٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز یا قرارداد یا پبلک آرٹیکل جس پر ہندو کے نمونے کے (فرمیکر) کے ذریعے فراہم کیا گیا ہے۔

وہ ارکان جو 30 ستمبر 2024 کو قلم ہونے والے مالی سال کے لئے سالانہ مالی کیوٹلے اور سینٹیک کا نوٹس وصول کرنا چاہتے ہیں یا اس کے بعد رجسٹرڈ پوسٹ یا کوئیکر کے بھائی ایل میل کے ذریعہ، پہنچ کر یہ سب سے اس مقصد کے لئے دستیاب فارم پر اپنی رضامندی منج کر سکتے ہیں۔

30 ستمبر 2024 کو قلم ہونے والے سال کے لئے پہنچ کر مالیاتی بیانات اور رپورٹس پہنچ کر یہ سب سے رکھ دی

www.premiersugarmills.com

www.premiergroup.pk

ویدئو تک کی سہولت

ایس ای کی سی نے 2021 کے سرکل نمبر 4 کے ذریعے ممبران کی شرکت الیکٹرانک ذرائع سے فراہم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ایسی ہی ایس ای میں شرکت کے خواہشمند ممبران کے درخواست کی جانی ہے کہ وہ ایس ای نام، فوٹو نمبر، ایس ای نام دے کر اپنے حصص کی تبدیلی میل نمبر، شناختی کارڈ نمبر (شناختی کارڈ کے دونوں اطراف کی درست کاپی کے ساتھ) جس کا موضوع "ایس ای نام میں شرکت کے لئے رجسٹریشن" mujahid@premiergroup.pk ای میل کریں۔

ویڈیوز لنک اور لاگ ان ایڈ صرف ان نمبروں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے ای میلز جن میں تمام مطلوبہ تفصیلات شامل ہیں، پر 24 فروری، 2025 کو کاروباری اوقات کے اختتام (شام 5:00 بجے تک) تک موصول ہوں گے۔

فریگل ٹینڈر کو یک اتری فلام میں تبدیل کرنا
ایس ای سی نے اپنے خلا نمبر 2 کے ذریعے 26 مارچ 2021 کو سی ایس ڈی / ای ڈی / ایم آئی ایس کے 046-936-6102/640-639-2016 کے لسٹڈ کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ "کمپنیز ایکٹ، 2017" ("کیٹ") کے دفعہ 72 کی شیٹ پر مکمل کریں جس کے تحت تمام موجودہ کمپنیوں کو ان کے ذریعہ جاری کردہ تفصیلات کو یک اتری فلام میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔

میر دینار علی خان / میٹر سٹریٹ

جنتوں نے اپنے ڈیوڈنڈ / فزیکل فینڈ جمع نہیں کیے ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے فینڈز رجسٹر سے رابطہ کریں تاکہ ان کے لاوارث ڈیوڈنڈ یا ہسٹری کے بارے میں پوچھ سکیں۔

پوسٹل بینک / ای ڈیجٹل
 (ڈی پی سی) شوقر ٹریڈنگز ڈسٹری بیوٹرز کی کمپنی "لینڈ" کے سالانہ جنرل اجلاس میں خصوصی کاروبار کے لئے دو دن 26 فروری 2025 بروز جمعہ صبح 11:30 بجے کو شجرہ روڈ مردان میں ہوئی۔ تکنیکی کمیٹی کا نمبر ای میل ایڈریس جس پر مناسب طریقے سے بھرا ہوا بلیٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے: mujahid@premiergrouppk
 پوسٹل بینک کا مقصد رپ سٹاک پر دستیاب ہے اور ٹوکس کے ساتھ بنی فنانس ہے۔

ای ویسٹ کی سہولت کی تفصیلات کہیں کے ان ممبروں کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس 24 فروری 2025 کو (الف) ای ویسٹ کی سہولت کے ممبروں کے ریسٹریسٹ میں ان کے درست شناختی کارڈ نمبر، ریل نمبر اور ای میل کے ویشل ہیں۔ کارڈ کے اختتام تک اپنی حتمی ممبروں کے

(ب) وہ ادریس، لاگ ان کی فصلیات، اور پاس ورڈ، ممبروں کو ای میل کے ذریعہ مطلع کیا جائے گا۔ شیئر رجسٹرار (ای) وینک سروس فراہم کنندہ ہونے کی حیثیت سے کے ذریعہ ممبروں کو ایس ایم ایس کے ذریعہ سیکورٹی کوڈ سے آگاہ کیا جائے گا۔

0 اربان 24 فروری 2023 کو بجے 9 بجے سے 25 فروری 2023 تک کسی بھی وقت آن لائن ووٹ ڈالیں گے۔ دو بجے 25 فروری 2023 کو
شیام 5:00 بجے ختم ہوگی۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے تو، اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت

جسٹس یلک صبر کے درمیان دوپہر کا طوفان
 جبریل ان بات کو سنیں گے کہ کچھ فراراً قوی شاختی کارڈ (سی این آئی سی) کی کاپی کے ساتھ ہاتھ پر اور دستخط شدہ یلک

[illegible][illegible]

پریمیئر شوگر ملز اینڈ ڈسٹریلری کمپنی لمیٹڈ



نوٹس برائے سالانہ اجلاس

پریمیئر شوگر ملز اینڈ ڈسٹریلری کمپنی لمیٹڈ کے فیئر ہولڈرز کا 79 واں سالانہ جنرل اجلاس نام 26 فروری 2025 کو صبح 11:30 بجے نوشہرہ روڈ مردان میں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں منعقد ہوگا۔

1. 26 فروری 2024 کو منعقد ہونے والے سالانہ جنرل اجلاس کے منٹس کی توثیق کرنا۔
 2. 30 ستمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لئے ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ کمپنی کے آؤٹ شدہ مالیاتی بیانات کو حاصل کرنے، غور کرنے اور اپنانے کے لئے منظور دینا۔
 3. کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور 30 ستمبر 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے ان کا معاوضہ مقرر کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز کے سہ ماہی شائع ونگ سید چوہدری اینڈ سنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس رجسٹر ہو رہے ہیں اور دوبارہ تقرری کے اہل ہیں۔
 4. کمپنی کے کسی دیگر امور پر کاروائی کی جنسز کی طرف سے اجازت دی جائے۔
 5. مندرجہ ذیل قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کرنے کو خصوصی قرارداد کے طور پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو:
1. 30 ستمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لئے متعلقہ فریقوں کے ساتھ کمپنی کی طرف سے کیے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری دینا اور مندرجہ ذیل خصوصی قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کرنا:
 2. 30 ستمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ کاروبار کے عام کورس میں کیے گئے لین دین کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جائے گی۔
 3. متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی منظوری دینا اور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو وٹا فوٹا ایسے متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کرنے کا اختیار دینا جس کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 207 اور 208 کے تحت فیئر ہولڈرز کی منظوری درکار ہو اور مندرجہ ذیل خصوصی قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کیا جائے:
 4. سالانہ یا اس کے بعد 30 ستمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ وٹا فوٹا متعلقہ فریقین کے ساتھ اسٹور اور اینڈرٹ کی خرید و فروخت، مشترکہ اخراجات، ذیل بیوروٹیک، مصنوعات، درمیانی مصنوعات، خام مال، آلاتوں کی خرید و فروخت اور پمپنگ مواد کی خریداری، سیرکٹیکسز کے عوض فراہمی، لیز کرنا اور لائسنس فیس، خدمات کی فیس سسٹ متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں۔
 5. مزید یہ کہ کمپنی کے فیئر ہولڈرز کے اگلے اجلاس تک ہونے والی ٹرانزیکشنز کی تفصیلات توثیق کے لئے فیئر ہولڈرز کے اگلے اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔
 6. مزید یہ کہ کمپنی کے فیئر ہولڈرز کی جانب سے مذکور بالا پیرامیٹرز کے اندر کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز سے متعلق کمپنی کی پالیسی کی تعمیل میں وٹا فوٹا خصوصی طور پر متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کی منظوری دے سکتے ہیں اور کسی بھی متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشن میں کمپنی کے ڈائریکٹرز کی رجسٹرڈ جوائنٹ فیئر ہولڈرز کی طرف سے نوٹ کیا گیا ہے اور بورڈ کی طرف سے منظور شدہ ٹرانزیکشنز کو سمجھا جائے گا۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 207 اور 208 کے تحت فیئر ہولڈرز نے اس کی منظوری دی ہے۔
 7. کمپنی کی شخصیات کی کتابیں 16 فروری 2025 سے 26 فروری 2025 تک بند رہیں گی (دو دن دن شال ہیں)۔

بورڈ کے نام سے
(محمد امجد)
جینیٹیکرز

مردان
فروری 03, 2025

نوٹ:

1. ایک رکن، جو اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہے، اپنے بجائے کسی دوسرے رکن کو شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کے لئے اپنے برائے کسی طور پر مقرر کر سکتا ہے۔ مقرر ہونے کے لئے پراسس کو جائز ہونا چاہئے اور اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کی طرف سے وصول کیا جانا چاہئے اور مناسب طور پر مقرر اور کوئی دی جانی چاہئے۔ ایک رکن ایک سے زیادہ پراسس مقرر کرنے کا حق دار نہیں ہوگا۔
2. ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں میں سے کسی بھی تہذیبی کے بارے میں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں۔
3. کسی ڈی سی کے فیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے لئے اپنا اصل سیکیورٹائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ، اکاؤنٹ، ذیلی اکاؤنٹ نمبر اور شرکاء کا نمبر سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم میں لائیں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پار آف ایڈمنسٹریٹو جس پر ہانڈ کے نمونے کے دستخط ہوں گے (بشرطیکہ یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔
4. وہ ارکان جو 30 ستمبر 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے سالانہ مالی گوشوارے اور منیٹنگ کا نوٹس وصول کرنا چاہتے ہیں یا اس کے بعد رجسٹرڈ پوسٹ / کوریئر کے ذریعہ، کمپنی کی ویب سائٹ پر اس مقصد کے لئے دستیاب فارم پر اپنی رضامندی منج کر سکتے ہیں۔
5. 30 ستمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے مالیاتی بیانات اور رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھ دی گئی ہیں۔
6. ویب لنک کی سہولت
ایس ای سی ٹی نے 2021 کے سرکر نمبر 4 کے ذریعے ممبران کی شرکت الیکٹرانک ذرائع سے فراہم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ایس ای سی ٹی میں شرکت کے خواہشمند ارکان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا نام، فون نمبر، اپنے نام پر رہنے کے حصے کی تعداد، سیل نمبر، شناختی کارڈ نمبر (شناختی کارڈ کے دونوں اطراف کی درست کاپی کے ساتھ) جس کا موضوع «ہے سی ایم میں شرکت کے لئے رجسٹریشن» mujahid@premiergroup.pk.com یا mujahid@premiergroup.pk.com ای میل کریں۔
7. ویڈیو لنک اور لاگ ان اسٹو صرف ان ممبروں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے ای میلز، جن میں تمام مطلوب تفصیلات شامل ہیں، پیر 24 فروری، 2025 کو کاروباری اوقات کے اختتام (شام 5:00 بجے تک) تک موصول ہوں گی۔
8. فریئل ٹیکرز کو یک ایتری فارم میں جمل کرنا
ایس ای سی ٹی نے اپنے فیئر نمبر 2 کے ذریعے 26 مارچ 2021 کو سی ایس ڈی / ای ڈی / ایم آئی ایس کل / 6102-936-046 640-639-2016 کے لنڈ کمپنیز کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 («ایکٹ») کی دفعہ 72 کی شق پر عمل کریں جس کے تحت تمام موجودہ کمپنیز کو ان کے ذریعہ جاری کردہ شخص کو یک ایتری فارم میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔
9. غیر رجسٹرڈ ہولڈرز / فیئر ہولڈرز
جنہوں نے اپنے ڈیویڈنڈ / فریئل ٹیکرز جمع نہیں کیے ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کریں تاکہ ان کے لاوارث ڈیویڈنڈ یا حصے کے بارے میں پوچھ بچھ کی جا سکے۔
10. پوسٹل بیٹنگ / ای ووٹنگ
«ای ووٹنگ» کے طور پر اینڈ ڈسٹریلری کمپنی لمیٹڈ کے سالانہ جنرل اجلاس میں خصوصی کاروبار کے لئے ووٹنگ 26 فروری 2025 بروز جمعہ صبح 11:30 بجے نوشہرہ روڈ مردان میں ہوگی۔ کمپنی سکرٹری کا نامزد ای میل ایڈریس جس پر مناسب طریقے سے بھرا ہوا ایلٹ پیج بھیجا جاسکتا ہے: com.mujahid@premiergroup.pk پوسٹل بیٹنگ کا منیجر ویب سائٹ پر دستیاب ہے اور نوٹس کے ساتھ بھی منسلک ہے۔

11. ای ووٹنگ کا طریقہ کار
(الف) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبروں کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس 24 فروری 2025 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبروں کے رجسٹر میں ان کے درست شناختی کارڈ نمبر، سیل نمبر اور ای میل ہے دستیاب ہیں۔
12. (ب) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، ممبروں کو ای میل کے ذریعہ مطلع کیا جائے گا۔ فیئر رجسٹرار (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کی حیثیت سے) کے ذریعہ ممبروں کو ایس ایم ایس کے ذریعہ بیکوری کوڈ سے آگاہ کیا جائے گا۔
13. (ج) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے تصدیق کی جائے گی۔
14. (د) 0 اراکان 24 فروری 2025 کو صبح 9 بجے سے 25 فروری 2025 تک کسی بھی وقت آن لائن ووٹ ڈالیں گے۔ ووٹنگ 25 فروری 2025 کو شام 5:00 بجے ختم ہوگی۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے، تو اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

پوسٹل بیٹنگ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار
ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ سیکیورٹائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی کاپی کے ساتھ باقاعدہ طور پر بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بیٹنگ پیج کمپنی کے پتے پر ڈاک کے ذریعے جیسٹیشن تک پہنچیں یا پوسٹل کے دن سے ایک دن پہلے، کام کے اوقات کے دوران com.mujahid@premiergroup.pk ای میل کریں۔ بیٹنگ پیج پر دستخط شدہ شناختی کارڈ پر دستخط کے ساتھ سیل نمبرز کے رجسٹرڈ جوائنٹ فیئر ہولڈرز کی طرف سے نوٹ کیا گیا ہے اور بورڈ کی طرف سے منظور شدہ ٹرانزیکشنز کو سمجھا جائے گا۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے «خصوصی امور» سے متعلق دفعہ 134 (3) کے تحت ملوث حاکم یا ممبروں کو سمجھا جائے گا کہ ہالے والے نوٹس کے ساتھ شک ہے۔

CERTIFIED

DAILY ASAS

قیمت 15 روپے

روزنامہ آساس

پبلشر: شیخ فاضل

محل: 05 شعبان انارکلا، 1446/04، 2025

28 مارچ / 24

https://asas.pk